

برائے فوری اجراء

اس سال برامپٹن میں محفوظ طریقے سے ہیلوین منائیں!

برامپٹن، آن (20 اکتوبر 2020) – اس سال، کووڈ-19 کی وجہ سے برامپٹن میں ہیلوین مختلف نظر آنے گی۔ جبکہ رہائشی اپنی سجاوٹ کر رہے ہیں اور گھر پر اپنی زبردست ہیلوین کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو اس سال کے جشن سے بحفاظت لطف اندوز ہونے کے طریقوں کی پیشکش کر رہا ہے۔

برامپٹن میں ٹرک آر ٹریٹنگ

صوبے اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، ترمیم شدہ مرحلہ 2 کی ہیلتھ یونٹ والے علاقوں، بشمول پبل ریجن اور برامپٹن، میں گھر گھر جا کر روایتی ٹرک آر ٹریٹنگ کی سفارش نہیں کی جاتی اور لوگوں کو اس موقع کو منانے کے لیے متبادل طریقوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے:

- بچوں کی اپنے خصوصی کپڑے پہن کر ورچوئل سرگرمیوں اور پارٹیز میں شرکت کرنی کی حوصلہ افزائی کرنا
- گھر پر ہمپکن تراشنا
- مووی نائیٹ کرنا یا ڈراونی کہانیاں سنانا
- سامنے کے صحن کو سجانا

کمیونٹی کو محفوظ رکھنے میں مدد دینے کے لیے، سٹی آف برامپٹن کے پاس اس سال آن لائن لطف اندوز ہونے کے لیے خاندانوں کے لیے ہیلوین کی وسیع اقسام کی مزیدار اور مفت تقریبات موجود ہیں!

ہمپکن کی سجاوٹ کا مقابلہ

بھوتیا جذبے کا حصہ بنیں اور ہمپکن سجانے کی اپنی مہارتیں دکھائیں۔ 16 سے 29 اکتوبر کے درمیان اپنے سب سے بڑے ہمپکن کی تصاویر جمع کروائیں اور کسی تیراکی، اسکیٹنگ یا تندرستی کے پروگرام میں شرکت کے لیے برامپٹن ریکرینیشن پاسز کے 50 جوڑے حاصل کریں۔ مکمل تفصیلات www.brampton.ca/recreation پر دستیاب ہیں۔

مفت مانسٹر میش ایکٹیویٹی کٹس

گھر کے اندر کی ایک ہیلوین سرگرمی کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیت دکھائیں! پہلے سے تیار سپلائی کٹ کے ذریعے اپنی بلائ بنائیں اور ایک مرحلہ بہ مرحلہ آن لائن ٹوٹوریل پر عمل کریں۔ مفت کٹس 19 اکتوبر سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مکمل تفصیلات www.brampton.ca/recreation پر دستیاب ہیں۔

کرافٹینسٹ کاسچیوم کانٹیسٹ

اس ہیلوین میں تخلیقی بنیں اور سٹی کی سب سے زبردست ہیلوین کاسچیوم بنائیں۔ سٹی 10 سال اور کم عمر بچوں کی سب سے بہترین تین کاسچیومز کو ایوارڈز دے گا، جبکہ شرکت کرنے والے ہر بچے کے لیے ایک خاص اسکرول اور تحفہ۔ ہمارے ججز کے پینل میں شامل ہیں میئر پیٹرک براؤن، سٹی کونسلر ڈوگ ولینز، ریجنل کونسلر روینا سینٹوس، پبل ریجنل پولیس سپریٹینڈنٹ نیو سنزر، پبل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ ٹرسٹی کیتھی مک ٹولڈ اور سٹی کی عبوری کمشنر آف کمیونٹی سروسز ڈیرک بوس۔

برامپٹن کے مقامی ٹریڈس بیجنے والوں سے کچھ زبردست انعامات جیتنے کے لیے 31 اکتوبر سے 6 نومبر کے درمیان #BramptonCraftiestCostume2020 استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی کاسچیوم کی تصویر شیئر کریں۔

جیتنے والوں سے براہ راست رابطہ کیا جائے گا اور اس کا اعلان سٹی کے سوشل میڈیا چینلز پر ہو گا۔

گریٹ ہمپکن پارٹی اور سوشل میڈیا کانٹیسٹ

اس سال، گریٹ ہمپکن پارٹی ورچوئل ہو گی۔ ہمپکن تراشنے والے پیشہ ور فنکاروں رک جیکسن اور رائے چسولم کو تراشی ہوئی اور 3D جیک او لینٹرنز بنانا دیکھیں! مشورے اور ٹوٹکے جانیں اور یقینی بنائیں کہ آپ اپنی بنائی ہوئی چیز کو ہمپکن کی سجاوٹ کے مقابلے میں شامل کریں۔

ہیلوین کے بعد اپنی کاسچيوم ایک آخری مرتبہ بنائیں اور اپنے پمپکنز کو کھاد بنانے کی تصویر لیں۔ اپنے پمپکن کو کھاد میں تبدیل کرنے کا طریقہ [یہاں](#) دیکھیں۔ کچھ زبردست انعامات جیتنے کے موقعے کے لیے اپنی تصویر کو 1 سے 6 نومبر کے درمیان [#BramptonHalloween2020](#) کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔

گزشتہ سالوں میں، سٹی رہائشیوں کو گریٹ پمکن پارٹی میں کوئی خراب نہ ہونے والی کھانے کی چیز لانے کا کہنا رہا ہے۔ اس سال پہلے کبھی سے بھی زیادہ، مقامی فوڈ بینکس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ براہ کرم مقامی فوڈ بینکس کو کچھ بھی عطیہ کرنے پر غور کریں۔

اقتباسات

"ٹرک آر ٹریٹنگ کے خلاف مشورہ دینے کے صوبے کے فیصلے کی روشنی میں، سٹی اس سال برامپٹن میں ہیلوین کو منانے کے لیے کئی اقدامات کر رہا ہے اور میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ہماری منصوبہ شدہ مزیدار سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں، بشمول کرافٹیسٹ کاسچيوم کانٹیسٹ، پمپکن کی سجاوٹ اور گریٹ پمکن پارٹی۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"اس ہیلوین پر، ہماری کمیونٹی کی صحت و بہبود کو اپنی اولین ترجیح رکھنا یقینی بنائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ گھر پر محفوظ طریقے سے جشن منائیں۔ ہمارے پاس خاندان کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے لیے کئی پرجوش اور محفوظ سرگرمیاں ہیں اور یقینی بنائیں کہ آپ کچھ زبردست انعامات جیتنے کے موقعے کے لیے ہمارے مقابلوں میں شامل ہوں!"

- برکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہم اس سال ہیلوین فاصلے سے منائیں گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کم جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بھوتیا کاسچيوم پہنیں، ہماری آن لائن سرگرمیاں دیکھیں اور 10 سال اور کم عمر بچوں کے لیے [#BramptonCraftiestCostume2020](#) کے ساتھ اپنی کاسچيومز کو اور [#BramptonHalloween2020](#) کے ساتھ کاسچيوم پہن کر اپنے پمپکن کو کھاد بناتے ہوئے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیں!"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"جبکہ اس سال پورے برامپٹن میں ہیلوین کا جشن ہو رہا ہے، صحت و سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ یقینی بنائیں کہ جشن منانے کے لیے گھر پر رہ کر پبلک ہیلتھ کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ خوشی منائیں۔ ایک پمپکن کو سجائیں، مانسٹر میشن ایکٹیویٹی کٹ حاصل کریں اور دن سے لطف اندوز ہوں!"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کنش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca